

عبادت سے اللہ کا قرب اور محبت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میں نے اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ فرض اعمال کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جب میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔"

اللہ کے ولیوں کا مقام

حدیث کے مطابق اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے، وہ اللہ کی جنگ کا مستحق بن جاتا ہے۔ جس میں یہ تین صفات پائی جائیں: ایمان، تقویٰ، اور قرآن و سنت کی پیروی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔

فرض اعمال اور اللہ کا قرب

اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل فرض عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج۔ فرض عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔

نفل عبادات کی اہمیت

نفل عبادات، جیسے تہجر، نفل روزے، اور صدقہ، اللہ کے قرب اور محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب بندہ نفل عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ اس کی ہر صورت میں حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔

اللہ کے ولیوں کی دعا کا اثر

اللہ کے ولیوں کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا سوال کریں، تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور اگر پناہ مانگیں، تو اللہ انہیں حفاظت عطا کرتا ہے۔ یہ آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔

حدیث نمبر 39

بھول چوک کی معافی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
"اللہ نے میری امت کے لیے بھول، غلطی، اور جو کام مجبوری میں کیا جائے، ان سب کو معاف کر دیا ہے۔"

بھول اور غلطی کی معافی

اس حدیث کے مطابق انسانی بھول اور غلطی پر اللہ کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ جب انسان جانے انجانے غلطی کرے، تو وہ گناہ کا مستحق نہیں بنتا۔

مجبوری کا عمل

اگر کوئی شخص مجبوری میں حرام کام کرے یا کسی شرعی حکم کے خلاف عمل کرے، تو اس پر اللہ معاف کر دیتا ہے، جب تک اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔



حدیث یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ انسانی ارادوں اور نیت کا حساب لیتا ہے۔ غلطی سے کیا گیا عمل انسان کے لیے گناہ کا سبب نہیں بنتا۔

حدیث نمبر 40

ترغیب زہد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

"اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک غریب یا مسافر ہو۔"

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

"شام کو صبح تک کی امید نہ رکھو، اور صبح کو شام تک کی امید نہ رکھو۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔"

دنیا میں سادگی

حدیث کے مطابق انسان کو دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے، جو ضرورت سے زیادہ سامان نہیں اٹھاتا۔

موت کی تیاری اور نیک اعمال

نبی ﷺ نے سمجھایا کہ انسان کو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ صبح اور شام کا انتظار کیے بغیر وقت کو نیک اعمال میں لگانا چاہیے۔

صحت اور زندگی کا استعمال

انسان کو اپنی صحت اور زندگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بیماری اور موت کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث انسانی زندگی کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے: دنیا میں ضرورت کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔



Hadees Number 38

Ibadat Se Allah Ka Qurb Aur Mohabbat

Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaya:

"Allah Ta'ala ne farmaya: Jo shakhs mere kisi wali se dushmani kare, maine uske liye jang ka elaan kar diya. Mera banda farz aamaal ke zariye mujhe qurb haasil karta hai, jo mujhe sabse zyada pasand hai. Jab mera banda nafl ibadat ke zariye mera qurb haasil karne ke koshish karta hai, to main usse mohabbat karta hoon. Jab main usse mohabbat karta hoon, to main uska kaan ban jata hoon jisse wo sunta hai, uski aankh ban jata hoon jisse wo dekhta hai, uska haath ban jata hoon jisse wo pakarta hai, aur uska paon ban jata hoon jisse wo chalta hai. Agar wo mujh se kuch maange, to main use zaroor deta hoon, aur agar wo mujh se panah maange, to main use panaah deta hoon."

Allah Ke Walion Ka Maqam:

Hadees ke mutabiq Allah ke wale woh log hain jo Allah aur uske Rasool ﷺ ke hukum ki mukammal pairvi karte hain. Jo shakhs Allah ke walion se dushmani kare, wo Allah ki jang ka mustahiq ban jata hai. Jis mein yeh teen sifaat paayi jayein : iman, taqwa aur Quran-o-Sunnat ki pairvi ,woh Allah ka wali hota hai.

Farz Aamaal Aur Allah Ka Qurb:

Allah ka sabse pasandida amal farz ibadat hai, jaise namaz, roza, zakat, aur hajj. Farz ibadat ke zariye banda Allah ka qurb haasil karta hai.

Nafl Ibadat Ki Ahmiyat:

Nafl ibadat, jaise tahajjud, nafal roza, aur sadaqah, Allah ke qurb aur mohabbat ka zariya banti hain. Jab banda nafl ibadat mein mashgool hota hai, to Allah uski har soorat mein hifazat aur rehnumai karta hai.

Allah Ke Walion Ki Dua Ka Asar:

Allah ke walion ki dua maqbool hoti hai. Agar wo kisi cheez ka sawal karein, to Allah usse zaroor ata karta hai, aur agar panaah maangein, to Allah unhein hifazat ata karta hai. Yeh aadmi mustajab-ud-da'waat banega.



Hadees Number 39

Bhool Chook Ki Maafi

Hazrat Ibn Abbas رضي الله عنه se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaya:

"Allah ne meri ummat ke liye bhool, ghalti, aur jo kaam majboori mein kiya jaye, un sab ko maaf kar diya hai."

Bhool Aur Ghalti Ki Maafi:

Is hadees ke mutabiq insani bhool aur ghalti par Allah ka mo'aakhza nahi hota. Jab insaan jaane anjaane galti kare, to wo gunaah ka mustahiq nahi banta.

Majboori Ka Amal:

Agar koi shakhs majboori mein haram kaam kare ya kisi shari' hukum ke khilaf amal kare, to us par Allah maaf kar deta hai, jab tak uska dil iman par mutma'in ho.

Hadees yeh sabak deti hai ke Allah insani iradon aur niyyat ka hisaab leta hai. Ghalti se kiya gaya amal insaan ke liye gunaah ka sabab nahi banta.

Hadees Number 40

Targheeb-e-Zuhd

Hazrat Abdullah Ibn Umar رضي الله عنه se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaya:

"Is duniya mein aise raho jaise ek ghareeb ya musafir ho.

Aur Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنه farmaya karte thay:

"Shaam ko subah tak ki umeed na rakho, aur subah ko shaam tak ki umeed na rakho. Apni sehat ko bimari se pehle aur apni zindagi ko maut se pehle ghaneemat jano."

Duniya Mein Sadgi:

Hadees ke mutabiq insaan ko duniya mein ek musafir ki tarah rehna chahiye, jo zarurat se zyada saman nahi uthata.

Maut Ki Tayari Aur Nek Aamaal

Nabi ﷺ ne samjhaya ke insaan ko maut ke liye hamesha tayyar rehna chahiye. Subah aur shaam ka intezaar bagair waqt ko nek aamaal mein lagana chahiye.



Sehat Aur Zindagi Ka Istemaal:

Insaan ko apni sehat aur zindagi ka faida uthana chahiye. Bimari aur maut ke baad amal ka waqt khatam ho jata hai.

Yeh hadees insani zindagi ke asal maqsad ki taraf rehnumai karti hai: duniya mein zarurat ke mutabiq zindagi guzaarna aur aakhirat ki tayyari karna.

